

برائے فوری اجراء

بر دروازے کے پیچھے چھپی داستان دریافت کریں - ڈیجیٹل طریقے سے!

برامپٹن، آن (21 ستمبر 2020) - بروز ہفتہ 26 ستمبر تا بروز ہفتہ 31 اکتوبر تک رہائشی اور سیاح برامپٹن کی تاریخ، ثقافت اور منفرد ثقافتی مقامات کو ڈیجیٹل ڈورز اوپن (Digital Doors Open) کے ایک حصے کے طور پر اپنے گھروں کے آرام دہ ماحول سے دیکھ سکتے ہیں۔

سٹی آف برامپٹن نے رواں سال کے توسیع شدہ ڈورز اوپن کے لیے ایک آن لائن پب تیار کی ہے، جس میں سیاحت، ویڈیوز اور 20 سے زیادہ تاریخ اور ورثہ کے حامل مقامات اور ہماری کمیونٹی کے صوبہ بھر کے دیگر دلچسپ مقامات شامل ہوں گے اور یہ سلسلہ تقریباً ایک مہینے تک جاری رہے گا۔ اس سال نیا، برامپٹن کے فنکاروں کے ساتھ ہماری کمیونٹی میں موجود عوامی فن کے بارے میں آن لائن جانیں اور آن لائن ہائیڈ اینڈ ہیریٹیج (پر آسیب اور ثقافتی مقامات) ٹور سے لطف اٹھائیں۔

برامپٹن کے ہر علاقے کے پاس سنانے کو ایک داستان موجود ہے۔ ہمارے شہر کی پبلک آرٹ کی یادگاریں دریافت کریں، ہماری فائر اور ٹرانزٹ کی سہولیات کے بارے میں جانیں اور ہماری کمیونٹی کی قدیم ترین عمارتوں کا دورہ کریں بشمول الٹریہ اسٹیٹ، گریس یونائیٹڈ چرچ اور تاریخی بوویرد ہاؤس۔ ہماری کمیونٹی کے دلچسپ مقامات کو ایسے دیکھیں جیسے آپ نے پہلے کبھی نہ دیکھے ہوں گے، جس میں پردے کے پیچھے ایسے مقامات کی سیر بھی شامل ہے جو عوام کے لیے ہر روز نہیں کھولے جاتے۔

مکمل تجربے کے لیے ملاحظہ کریں۔ brampton.ca/doorsopen

اونٹاریو ہیریٹیج ٹرسٹ، اونٹاریو کی تمام کمیونٹیز کے تعاون کے ساتھ ڈورز اوپن کے دوران اونٹاریو کے انتہائی منفرد اور دلچسپ ثقافتی مقامات کے ڈیجیٹل ڈورز، گیٹ اور صحن کھولنے کے لیے کام کر رہا ہے، تاکہ آپ ان کے اندر کی تاریخ اور داستانیں دریافت کر سکیں۔

مزید معلومات کے لیے ملاحظہ کریں doorsopenontario.on.ca

اقتباسات

"اس سال پورا مہینہ ڈورز اوپن آن لائن طور پر منعقد کیا جائے گا اور تمام لوگوں کو برامپٹن میں موجود کئی منفرد دروازوں کے پیچھے چھپی داستانوں کو دریافت کرنے کے وسیع تر مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ برامپٹن کی تاریخ اور ثقافت انتہائی زرخیز ہے اور میں سب لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے آرام دہ ماحول میں موجود رہتے ہوئے ہمارے انتہائی دلکش اور منفرد مقامات کو دریافت کریں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ڈورز اوپن اس سال تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے مگر یہ تجربہ بڑا منفرد اور دلکش ہو گا۔ برامپٹن کے ہمارے چند انتہائی دلچسپ مقامات کے ڈورز کے آن لائن ہب، ویڈیوز اور تصاویر کو دیکھنا ہر گز نہ بھولیں اور پورا مہینہ جاری رہنے والی فنکاروں کی دلچسپ گفتگو اور ہائیڈ اینڈ ہیریٹیج ڈورز کا جی بھر کر لطف اٹھائیں۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر وارڈز 1 اور 5؛ وائس چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کے عمل نے اس سال کے لیے برامپٹن ڈیجیٹل ڈورز اوپن تقریب کے لیے ایک شاندار آن لائن ہب تیار کیا ہے، جس میں ہمارے شہر کی تاریخ، ورثہ اور منفرد ثقافتی مقامات کے ہوش ربا نظارے پیش کیے جائیں گے۔ یہ ایک ایسی تقریب ہے جس کو آپ ہر گز نہیں چھوڑنا چاہیں گے!"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایگزیکٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 650,000 لوگوں اور 70,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم ایک صحت مند شہر کی تعمیر میں بڑھوتری کے لیے مل کر کام کرتے ہیں، جو محفوظ، قابل استحکام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca